



میں نے عرض کیا : اللہ کے رسول ! نجات کیا ہے ؟ فرمایا : "اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو اور اپنے گناہ پر رویا کرو ۔

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتا ہے: میں نے عرض کیا : اللہ کے رسول ! نجات کیا ہے ؟ فرمایا : "اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور تمہارا گھر تمہارے لئے کافی ہو اور اپنے گناہ پر رویا کرو ۔

[صحیح] [رواہ الترمذی وأحمد]

عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں، جو ایک مومن کے لیے دنیا و آخرت کی نجات کا باعث بنتی ہیں؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین باتوں کا خیال رکھا کرو: 1- تمام طرح کی بری اور غیر مفید باتوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرو اور صرف اچھی باتوں کے لیے ہی منہ کھو لا کرو ۔ 2- اپنے گھر میں رہا کرو، تاکہ تنہائی میں اللہ کی عبادت کر سکو، اس کی بندگی میں مشغول رہو اور گھر میں رہ کر فتنوں سے کنارے کشی اختیار کرو ۔ 3- اپنے گناہوں پر رویا کرو، شرمند رہو اور اللہ کے حضور توبہ کرو ۔

<https://www.sunnah.global/hadeeth/ur/show/3602>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

